



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

PRESS RELEASE  
For immediate release  
August 26, 2016

## **SECP, ICAP sign MOU to promote investor education and awareness**

**ISLAMABAD, August 26, 2016:** The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) and the Institute of Chartered Accountants of Pakistan (ICAP) signed an MOU to establish cooperation for spreading investor education and awareness through investor awareness sessions for the students and members of ICAP.

The MOU was signed at the SECP Head Office in Islamabad as part of SECP's investor education program launched under the brand name "JamaPunji".

The MOU was signed by the SECP chairman, Mr. Zafar Hijazi, and ICAP president, Hafiz Mohammad Yousaf. The ICAP contingent included Ms. Farzana Munaf, Executive Director – Legal and Membership Affairs, along with the council members Mr. Muhammad Maqbool, Mr. Nazir Ahmad Chaudhri, Mr. Rashid Ibrahim and Mr. Israr Khan, Senior Manager, while senior SECP officials were also in attendance.

The Director/HOD Investor Education and International Relations Department Ms. Khalida Habib welcomed the honorable guests and briefed them about the salient features of the SECP's Investor Education program.

On the occasion the Chairman SECP, emphasized the importance of collaborative efforts between the regulator and the professional accounting bodies like ICAP to develop a more aware and vibrant financial ecosystem in Pakistan. He said Chartered Accountants must play a more active role in developing the ethical and professional standards in the Accounting profession.

The Chairman stressed that qualified professionals like members of ICAP can consider the possibilities of professional growth by entering the capital markets as an investment advisor and this area should be made part of seminars and sessions targeted under the cooperation arrangement between the two institutions.

Commemorative plaque was presented to the President ICAP by the SECP. Under the MoU, SECP will be holding regular seminars in collaboration with ICAP at all their Centers on a continuing basis and the main focus of the sessions will be on financial planning, investing, capital markets, mutual funds, insurance and other non-banking financial institutions.

In the end the President ICAP Hafiz Mohammad Yousaf thanked the Chairman SECP and expressed his keen interest in developing a long term association in this regard.

ایس ای سی پی اور آئی کیپ سرمایہ کاروں کی آگہی کے لئے مل کر کام کریں گے۔

اسلام آباد، ۲۶ اگست، ۲۰۱۶: سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان اور انسٹی ٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس پاکستان نے سرمایہ کاری کی آگہی اور افرادی تربیت کے لئے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کئے۔ جس کے تحت آئی کیپ کے ممبران اور طلبہ کے لئے خصوصی آگہی سیشن منعقد کئے جائیں گے۔

ایس ای سی پی کے صدر دفتر میں طے پانے والی یہ مفاہمتی یادداشت جمع پونجی کے نام سے ایس ای سی پی کے شروع کئے گئے پروگرام برائے آگہی سرمایہ کاران کا حصہ ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر ایس ای سی پی کے چیئرمین ظفر حجازی اور آئی کیپ کے صدر حافظ محمد یوسف نے دستخط کئے۔ آئی کیپ کے وفد میں فرزانہ مناف، محمد یعقوب، نذیر احمد چوہدری، راشد ابراہیم اور اسرار خان شامل تھے۔

ایس ای سی پی کے شعبہ آگہی سرمایہ کاران اور بین الاقوامی تعلقات کی سربراہ خالدہ حبیب نے معزز مہمانوں کو جمع پونجی کے مقاصد اور نمایاں خدوخال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ایس ای سی پی کے چیئرمین نے ادارے اور آئی کیپ کے مابین مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا تاکہ پاکستان میں با علم اور مضبوط مالیاتی قواعد کو فروغ دیا جاسکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پیشہ ورانہ اداروں کے تعلیم یافتہ ماہرین کو اس شعبہ میں آگے بڑھ کر اپنا مشاورتی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور اس مقصد کے لئے زیادہ سے زیادہ آگہی سیمیناروں اور مجالس کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔

چیئرمین ایس ای سی پی نے آئی کیپ کے صدر کو یادگاری شیلڈ پیش کی۔ اس مفاہمتی یادداشت کے تحت ایس ای سی پی، آئی کیپ کے تعاون سے ان کے تمام سینٹروں پر باقاعدگی سے آگہی سیمیناروں کا انعقاد کرے گا۔ تاکہ طلبہ اور آئی کیپ کے ممبران کو اس شعبہ کے جدید رجحانات سے آگاہ کیا جاسکے۔ انہوں نے جمع پونجی کی ٹیم کو ہدایت کی کہ ایسے سیشنز میں مالیاتی منصوبہ بندی، بازار سرمایہ، میوچل فنڈز، بیمہ اور دیگر غیر بینکاری مالیاتی اداروں کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات شراکتک پہنچائی جائیں۔ آخر میں آئی کیپ کے صدر حافظ محمد یوسف نے چیئرمین ایس ای سی پی کا شکریہ ادا کیا اور دونوں اداروں کے درمیان طویل المیعاد تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔